

# سُورَةُ مُحَمَّلٍ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ﴾ جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے

أَصَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿١﴾ رائیگاں کر دیا اللہ نے ان کے اعمال کو ﴿١﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال

وَأَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ واور ایمان لے آئے اس پر جو نازل ہوا ہے محمد پر

وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ اور ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے

كَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ دور کر دیں اللہ نے ان سے ان کی برائیاں

وَأَصْلَحَ بِأَلْفِهِمْ ﴿٢﴾ اور درست کر دیے ان کے احوال ﴿٢﴾

ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا

اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا پیروی کی ہے انہوں نے باطل کی اور وہ لوگ جو ایمان لائے

اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ پیروی کی ہے انہوں نے اس حق کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ اس طرح بتائے دیتا ہے اللہ

لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴿٣﴾ انسانوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت ﴿٣﴾

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا

پھر جب مقابلہ ہو تمہارا ان لوگوں سے جو کافر ہیں

فَضْرَبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا

توان کی گردنیں اٹاؤ۔ یہاں تک کہ جب

أَخْنَقْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ ۖ

کچل دو تم انہیں تو مضبوط بانڈھو (قیدیوں کو)

فَمَا مَاتْنَا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ

پھر اس کے بعد یا تو بطور احسان یا فدیہ لے کر (چھوڑ دو)

حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۗ

یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے

ذٰلِكَ ۗ وَلَوْ يَشَاءُ اللهُ

یہ ہے صحیح طریقہ اور اگر چاہتا اللہ

لَا نَتَّصِرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا

تو خود ہی نبٹ لیتا ان سے لیکن (اس نے چاہا کہ آزمائے

بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۚ

تم کو ایک دوسرے کے ذریعہ سے

وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ

اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کی راہ میں

فَلَنْ يُضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝۱۰

سو ہرگز نہیں ضائع کرے گا اللہ ان کے اعمال ۱۰

سَيَهْدِيهِمْ

وہ ضرور انہیں دکھائے گا سیدھی راہ

وَيُضِلُّهُم بِاٰلِهِمْ ۝۱۱

اور درست کر دے گا ان کے اعمال ۱۱

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ

اور داخل کرے گا انہیں اس جنت میں

عَرَفَهَا لَهُمْ ۝۱۲

جس سے وہ واقف کر چکا ہے انہیں ۱۲

يَآٰيَهَا الَّذِينَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوا

اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اگر مدد کرو گے تم

اللهُ يَنْصُرْكُمْ

اللہ کی تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا

وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝۱۳

اور جمادے گا مضبوطی سے تمہارے قدم ۱۳

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمُ

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ سو ہلاکت ہے ان کے لیے

وَاصْلًا ۝۱۴

اور ضائع کر دیا ہے اللہ نے ان کے اعمال کو ۱۴



یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو جسے نازل فرمایا ہے	ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا اَنْزَلَ
اللہ نے، لہذا غارت کر دیے اللہ نے ان کے اعمال ⑩	اللَّهُ فَاحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ⑩
کیا نہیں چلے پھرے ہیں یہ زمین میں	اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ
تاکہ دیکھتے کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو	فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ
ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ تباہ و برباد کر دیا اللہ نے انہیں	مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
اور کافروں کے لیے ہیں ایسے ہی نتائج ⑪	وَاللِّكْفِرِيْنَ اَمْثَالَهَا ⑪
یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ حامی و ناصر ہے ان لوگوں کا جو	ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰى الَّذِيْنَ
ایمان لائے اور حقیقت یہ ہے کہ کافر،	اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ
نہیں ہے کوئی حامی و ناصر ان کا ⑫	لَا مَوْلٰى لَهُمْ ⑫
بلاشبہ اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے	لَآنَ اللّٰهَ يَدْخُلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
اور کیے انہوں نے نیک اعمال ایسی جنتوں میں	وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ
کہ بہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں	تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ
اور وہ لوگ جو کافر ہیں مزے لوٹ رہے ہیں	وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَمْتَنِعُوْنَ
اور کھاپی رہے ہیں (چند روزہ زندگی میں) جیسے کھاتے ہیں	وَيَأْكُلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ
جانور اور جہنم آخری ٹھکانا ہے ان کا ⑬	الْاَنْعَامِ وَالتّٰرْمَثِوٰى لَهُمْ ⑬
اور کتنی ہی بستیاں — جو بہت زیادہ زور آور تھیں	وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً
تمہاری اس بستی سے جس نے تمہیں نکالا ہے	مِّنْ قَرْيَةٍ الَّتِيْ اَخْرَجْتَكُ ۗ
ہلاک کر دیا ہم نے ان کو سونہ ہو کوئی مددگار ان کا ⑭	اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ⑭

سو بھلا وہ شخص جو ہو صاف اور صریح ہدایت پر

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ

اپنے رب کی، ان کی طرح ہو سکتا ہے

مَنْ رَبِّهِ كَمَنْ

جن کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہوں ان کے برے عمل

زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ

اور پیرو بن گئے ہوں وہ اپنی خواہشات کے؟ ۱۴

وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝۱۴

احوال اس جنت کا جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۝

(یہ ہے کہ) ہوں گی اس میں نہریں صاف ستھرے پانی کی

فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۝

اور نہریں دودھ کی نہ فرق آیا ہوگا اس کے ذائقے میں

وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ ۝

اور نہریں شراب کی جو لذیذ ہوں گی پینے والوں کے لیے

وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذِيَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۝

اور نہریں صاف شفاف شہد کی

وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ۝

اور ان کے لیے جنت میں ہوں گے ہر طرح کے پھل

وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

اور بخشش ہوگی ان کے رب کی طرف سے

وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۝

(کیا یہ لوگ) ان کی مانند ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ رہیں گے

كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ

جنم میں اور پلایا جائے گا انہیں کھولتا ہوا پانی

فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا

جو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈلے گا ان کی آنتوں کو ۱۵

فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝۱۵

اور (بے نبی) ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو

وَمِنْهُمْ مَّنْ

کان لگا کر سنتے ہیں تمہاری باتیں، یہاں تک کہ جب

يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا

نکل کر جاتے ہیں تمہارے پاس سے تو پوچھتے ہیں

خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا

ان لوگوں سے جنہیں دیا گیا ہے علم کہ کیا کہا تمہارا رسول نے

لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ

ابھی ابھی؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر کر دی ہے اللہ نے

إِنفَاءً أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ

ان کے دلوں پر اور پیرو بنے ہوئے ہیں اپنی خواہشات کے ۱۶

عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝۱۶

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ

اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی مزید عطا کرتا ہے اللہ ان کو

هُدًى وَأَتَتْهُمْ تَقْوَاهُمْ ۝۱۷

ہدایت اور عطا فرماتا ہے انہیں ان کے حصہ کا تقویٰ ۱۷

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ

سو نہیں انتظار کر رہے یہ (مکیرین) مگر قیامت کی گھڑی کا

أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَتَقْدَرُ جَاءَ

کہ آجائے وہ ان پر اچانک سو یقیناً آچکی ہیں

أَشْرَاطَهَا ۚ فَأَتَى لَهُمْ

اس کی علامات۔ پھر کونسا موقع ہوگا ان کے لیے

إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ ۝۱۸

جب آہی جائے گی ان پر وہ گھڑی۔ نصیحت قبول کرنے کا ۱۸

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

پس (اے نبی) خوب جان لو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے

وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ

اور معافی مانگو اپنے قصور کی اور (معافی مانگو) مومن مردوں کے لیے

وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

اور مومن عورتوں کے لیے۔ اور اللہ واقف ہے

مُتَقَلِّبِكُمْ وَمَثْوَلِكُمْ ۝۱۹

تمہاری سرگرمیوں سے بھی اور تمہارے ٹھکانے سے بھی ۱۹

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ

اور کہتے تھے وہ لوگ جو ایمان لائے کیوں نہیں نازل کی جاتی

سُورَةٌ ۚ فَإِذَا نُزِّلَتْ

کوئی سورت (جس میں جنگ کا حکم ہو) مگر جب نازل کی گئی

سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا

ایک سورت، واضح احکام والی اور ذکر کیا گیا اس میں

الْقِتَالُ ۗ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

جنگ کا تو دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں

مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ

بیماری تھی کہ وہ دیکھتے ہیں تمہاری طرف ایسے جیسے دیکھتا ہے

الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۗ

وہ شخص جس پر بے ہوشی طاری ہو گئی ہو موت کی

فَأُولَىٰ لَهُمْ ۝۲۰

سو افسوس ہے ان کے حال پر ۲۰



طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ﴿٦٠﴾

(زبان پر تو ان کے ہے) اطاعت کا اقرار اور اچھی باتیں

فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ ﴿٦١﴾

لیکن جب (جنگ کا) قطعی حکم دے دیا گیا،

فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ

تو اس وقت اگر سچے نکلتے یہ اللہ سے (کیے ہوئے اپنے عہد میں)

لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٦٢﴾

تو ہوتا یہ بہتر ان کے لیے ﴿٦٢﴾

فَهَلْ عَسَيْتُمْ

تو اے منافقو! تم سے اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے

إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

کہ اگر تم اٹے منہ پھر گئے تو فساد مچاؤ گے زمین میں

وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٦٣﴾

اور آپس میں قطع رحمی کرو گے؟ ﴿٦٣﴾

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ

یہی ہیں وہ لوگ کہ دور کر دیا ہے انہیں اپنی رحمت سے

اللَّهُ فَاصْمَهُمْ

اللہ نے اور بہرا کر دیا ہے انہیں

وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴿٦٤﴾

اور اندھی کر دی ہیں ان کی آنکھیں ﴿٦٤﴾

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ

سو کیا نہیں غور کرتے یہ قرآن پر

أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٦٥﴾

کیا ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں؟ ﴿٦٥﴾

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدَوْا عَلَيَّ أَدْبَارِهِمْ

بلاشبہ وہ لوگ جو اٹے پھر گئے ہیں

مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ

اس کے بعد کہ کھل کر آگئی تھی ان کے سامنے ہدایت،

الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ۗ

شیطان نے آسان بنا دیا ہے ان کے لیے (یہ کام)

وَأَمَلَىٰ لَهُمْ ﴿٦٦﴾

اور دراز کر رکھا ہے جھوٹی توقعات کا سلسلہ ان کے لیے ﴿٦٦﴾

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ

كَرِهُوْا مَا نَزَلَ اِلٰهُهُ

سَنُطِيعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ

وَ اِلٰهُهُ يَعْلَمُ اَسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّيْتَهُمُ

الْمَلٰٓئِكَةُ يَصْرُبُوْنَ

وُجُوْهُهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ﴿٢٧﴾

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اتَّبَعُوْا مَا

اَسْحَطَ اِلٰهُهُ وَ كَرِهُوْا

رِضْوَانَهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ

اَنْ لَّنْ يُخْرِجَ اِلٰهُهُ اَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾

وَلَوْ نَشَاءُ لَا رَيْبَ لَكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ

بِسِيْمَتِهِمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ

فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ۗ وَاِلٰهُهُ يَعْلَمُ

اَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾

یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا تھا ان لوگوں سے جو

ناپسند کرتے تھے اس چیز کو جو نازل کی ہے اللہ نے

کہ ہم ضرور مانیں گے تمہاری باتیں بعض معاملات میں

اور اللہ خوب جانتا ہے ان کی خفیہ باتیں ﴿۲۶﴾

پھر کیا حال ہوگا اس وقت جب روحیں قبض کریں گے ان کی

فرشتے، مارتے ہوئے

ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ﴿۲۷﴾

یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے پیروی کی ہے اس طریقہ کی جو

ناراض کرنے والا ہے اللہ کو اور ناپسند کیا ہے انہوں نے

اس کی رضا کا راستہ۔ سو ضائع کر دیے اللہ نے ان کے سب اعمال ﴿۲۸﴾

کیا سمجھے بیٹھے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے

کہ نہیں ظاہر کرے گا اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ؛ ﴿۲۹﴾

اور اگر ہم چاہیں تو ضرور دکھادیں ہم تمہیں پھر پہچان لو تم ان کو

ان کے چہروں سے اور ضرور جان لیتے ہو تم ان کو

(ان کے) انداز گفتگو سے اور اللہ خوب جانتا ہے

تم سب کے اعمال کو ﴿۳۰﴾

وَلَنْبَلُوتَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ

اور ہم ضرور آزمائش میں ڈالیں گے تم کو تاکہ دیکھ لیں ہم

الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالضَّيِّرِينَ ۚ

ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے اور ثابت قدم بننے والے ہیں

وَنَبَلُّوْا اٰخْبَارَكُمْ ۝۳۱

اور جانچ لیں تمہارے حالات کو ۳۱

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدَّوْا

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُوْا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ

اللہ کی راہ سے اور مخالفت کی رسول کی اس کے بعد بھی

مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۚ

کہ واضح ہو چکی تھی ان کے لیے راہِ راست

لَنْ يَّضُرُّوْا اللّٰهَ شَيْئًا ؕ

ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکیں گے وہ اللہ کو ذرا بھی

وَسَيُحِطُّ اَعْمَالَهُمْ ۝۳۲

اور اللہ غارت کرے گا ان کے اعمال کو ۳۲

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی

وَاطِيعُوْا الرَّسُوْلَ

اور اطاعت کرو رسول کی

وَ لَا تَبْطُلُوْا اَعْمَالَكُمْ ۝۳۳

اور مت برباد کرو اپنے اعمال ۳۳

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدَّوْا

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَا تُوْا وَهُمْ كَقَارِ

اللہ کی راہ سے پھر مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے

فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ۝۳۴

سو ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ انہیں ۳۴



فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ ۗ

لہذا نہ ہمت ہارو تم اور نہ درخواست کرو صلح کی

وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۗ وَاللَّهُ مَعَكُمْ

اور تم ہی غالب رہنے والے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے

وَلَنْ يَتْرِكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۝

اور ہرگز نہیں ضائع کرے گا وہ تمہارے اعمال کو ۝

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ

بے شک یہ دنیاوی زندگی ہے محض کھیل

وَلَهُمْ وَلَئِنْ تَوَمَّنُوا

اور تمہارا۔ اور اگر تم مومن رہے

وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ

اور تقویٰ کی روش اختیار کی تم نے تو دے گا وہ تمہیں

أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۝

تمہارے اجر اور نہ مانگے گا تم سے تمہارے مال ۝

إِنْ يَسْأَلْكُمْوهَا

اور اگر کہیں مانگ لے تم سے تمہارے مال

فِيخْفِكُمْ تَبَخَّلُوا

اور طلب کر لے تم سے سب کے سب تو تم بخل کرو گے

وَيُخْرِجَ أَضْعَافًا نَكْمًا ۝

اور ظاہر کر دے گا اللہ تمہارے دلوں کے کھوٹ ۝

هَآءَانْتُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِتُنْفِقُوا

دیکھو ایہ تم ہی ہو جنہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ خرچ کرو

فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ۗ

اللہ کی راہ میں۔ سو تم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں

وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَن نَّفْسِهِ ۗ

اور جو بخل کرتا ہے تو بس بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ ہی سے

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ۗ

اور اللہ تو غنی ہے اور تم ہی محتاج ہو۔

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۗ

اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ لے آئے گا اور لوگوں کو تمہاری جگہ

ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝

پھر نہ ہوں گے وہ تم جیسے ۝